

مالی معاونت

— کینسر کے مریضوں کے لئے



کیا آپ یا آپ کے قریبی خاندان کے افراد کینسر کا شکار ہیں اور گھریلو مالی مشکلات سے دوچار ہیں؟ ناروے کی کینسر کی سوسائٹی آپ کو یا آپ کے قریبی خاندان کے افراد کو کینسر سے متاثر ہونے کی صورت میں NOK 3,000-20,000 کے ایک وقتی عطیات دینے کو تیار ہیں۔

اگر آپ مندرجہ ذیل کی ضرورت ہو تو مالی معاونت کے لئے درخواست دیں:

- مالی مشکلات سے درپیش ہونے کے دوران امداد فراہم کرنے کے لئے گرانٹ
- اگر آپ کے اخراجات میں اضافہ ہوا ہو اور/یا آمدنی میں کمی ہوئی ہو
- اگر آپ ایسے اخراجات اٹھا رہے ہیں جن کی ریاست کوریج نہیں فراہم کرتی
- آپ کے پورے خاندان کے لئے بحالی یا تفریقی/فلاح و بہبود کے اقدامات (بیرون ملک علاج اہل نہیں)

مندرجہ ذیل دستاویزات کو اپلیکیشن کے ملحق کے طور پر جمع کرائیں:

- گھر کے تمام افراد کے لئے NAV کی طرف سے جاری کردہ آخری بے سلب یا بیان
- 18 سال سے زائد عمر کے گھر کے تمام افراد کے لئے آخری ٹیکس ریٹرن یا ٹیکس کی تشخیص
- ہسپتال کنسلٹنٹ یا آپ کے جی پی کی جانب سے جاری کردہ میڈیکل سرٹیفکیٹ، یا متبادل طور پر دیگر ایسا کوئی بھی دستاویز جس میں آپ کے کینسر کی تشخیص کے بارے میں بیان کیا ہو
- پناہ گزینوں کو نارویجن ڈی نمبر (ایک عارضی شناختی نمبر) اور نارویجن بینک اکاؤنٹ فراہم کرنا ضروری ہے

اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو براہ کرم +47 21 49 49 21 پر کال کر کے ہم سے رابطہ کریں یا ہمیں ایک ای میل بھیجیں
rettigheter@kreftforeningen.no

مدد کے لئے کون اہل ہے؟

- ناروے کے رہائشی جو ناروے کی صحت کی دیکھ بھال کے نظام میں علاج حاصل کر رہے ہیں۔
- NOK 3,000 سے NOK 12,000 تک کی رقم سنگل درخواست دہندگان کے لئے، جبکہ درخواست دہندگان کے خاندان کے افراد کی تعداد کے لحاظ سے NOK 20,000 تک کی رقم دستیاب ہے۔
- درخواست دہندگان کے مالی حالات کا تعین اوسلو میٹروپولیٹن یونیورسٹی میں کنسمپشن ریسرچ ناروے (SIFO) کی طرف سے تیار بینچ مارک بجٹ کی بنیاد پر ان کی ماہانہ تنخواہ، رہائش کے اخراجات، قرضوں اور دولت کی بنیاد پر کیا جائے گا۔

درخواست دینے کا کیا طریقہ ہے؟

- ایپلی کیشنز کے لئے ماہانہ آخری تاریخ ہر مہینے کی دس تاریخ ہے
- کاغذ پر یا الیکٹرانک طور پر درخواست کا فارم مکمل کریں
- درخواست کو

www.kreftforeningen.no/tilbud

پر مالی معاونت ٹیب کے تحت جمع کرائیں
('økonomisk støtte' میں)



KREFTFORENINGEN

فون: 21 49 49 21 • kreftforeningen.no • post@kreftforeningen.no